

1. درج ذیل اقتباس کا ترجمہ اردو ہندی/انگریزی میں کیجیے:
- روزی پیامبر گرامی ما حضرت محمدؐ فرمود: بعضی از مردم در دینا کارهای بسیار خوبی انجام می دهند، مثلاً نماز می خوانند، روزه می گیرند و شبها عبادت می کنند اما همین مردم وقتی که برای حساب در روز قیامت حاضر می شوند کارهایشان اصلاً قبول نمی شود و همه عبادت آنها باطل می شود۔ از طرف خدا فرمان می رسد کہ باید بہ جہنم بروند۔ مردم ازین سخن تعجب کردند۔
- سلمان فارسی پرسید اینها با آنکہ نماز خوانده اند، روزه گرفته اند، بہ حج رفتہ اند و بہ بینوایان کمک کردہ اند باز ہم بہ جہنم می رسند، حضرت محمدؐ فرمود: این مردم مال حرام می خورند و روزی خود را از راههای حرام بدست می آرند بہمین سبب خدا عبادتشان را قبول نمی کند۔
2. مندرجہ بالا اقتباس سے متعلق درج ذیل سوالوں کے جواب فارسی میں دیجیے:
- (i) بعضی از مردم در دنیا کارهای بسیار خوبی را انجام می دهند۔ سہ تا کار خوبی را بیان کیند۔
- (ii) برای مرد می کہ عبادتشان قبول نمی شود چه فرمانی از طرف خدا می رسد؟
- (iii) سلمان فارسی از حضرت محمدؐ چه پرسید؟
- (iv) حضرت محمد بہ سلمان فارسی چه پاسخ داد؟
- (v) خدا عبادت چه کسان را قبول نمی کند؟
3. درج ذیل جملوں کا فارسی میں ترجمہ کیجیے:
- (i) حسن نے تم کو ایک تحفہ دیا تم نے قبول کیوں نہیں کیا
- (ii) جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں اور اپنی روزی حرام طریقوں سے حاصل کرتے ہیں خدا ان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔
- (iii) ہر روز بھوک کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں۔

(iv) میرا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت غریبوں کو بخش دی

(v) انسان پرانے زمانے سے آسمان میں اڑنے کی آرزو رکھتا تھا

4. سوال نمبر ایک میں مختلف افعال استعمال ہوئے ہیں، آپ اس میں سے فعل حال کی 8 مثالیں چھانٹ کر لکھیے۔

5. مندرجہ ذیل مفرد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے مفرد لکھیے۔

روز۔ روزہ۔ سخن۔ راہ۔ مرد۔ گدا۔ دست ہا۔ کارہا۔ شبہا۔ عبادت ہا۔ بینوایان

6. درج ذیل جملوں میں فعل کا صحیح استعمال کیجیے:

این مردم مال حرام..... (خوردن)۔ مال مردم را بدون اجارہ.....

(برداشتن)

از خوردن مال حرام پرہیز..... (نداشتن) و روزی خود را از راہ حرام

بہ دست..... (آوردن)۔ بہ ہمین سبب خدا عبادت ایشان را

قبول..... (کردن) و ایشان باید بہ جہنم..... (رفتن)